



سوال

(169) صدقة الفطر سے مسجد تعمیر کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

غریب اہل حدیث، جماعت کے لوگ اس علاقہ میں صدقہ الفطر جمع کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ دھان۔ چاول۔ پسمہ وغیرہ۔ ایک جگہ جمع کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ ایک سال یہ لوگ صدقہ الفطر سے اپنے گاؤں کے محلہ کی جامع مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ مال بند کر رکھا ہے۔ آیا اس مال سے محلہ کی جامع مسجد بنانا جائز ہے۔ یا کہ نہیں؟ یا مال مذکور سے امام مسجد کو کچھ حصہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ (سعید الرحمن نذیری، جھوڑ بنگال)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسجد نہیں بنا سکتے۔ یہ غرباء مساکین کا حق ہے۔ اگر امام مسجد غریب مسکین ہے۔ تو لے سکتا ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 7 ص 270

محدث فتویٰ